

بسم اللہ الرحمن الرحیم

## روزہ توڑنے کی بعض صورتوں میں کفارہ واجب ہونے اور بعض میں واجب نہ ہونے میں وجہ فرق

سوال:

محترمی و مکرمی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ  
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

حضرت جی! اداہم اللہ برکاتک علینا، آمین

”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ میں لکھا ہے کہ سرمہ یا تیل سر میں لگایا اور یہ سمجھا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور کھاپی لیا تو اس پر کفارہ لازم ہے جبکہ اگر بھول کر کھالیا اور سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا اور کھاپی لیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اس طرح کی باقی صورتوں میں بھی یہی حکم ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟

سائلہ: ام سعید

جواب:

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

روزہ توڑنے پر کفارہ کا حکم اس وقت عائد ہوتا ہے جب روزہ دار کی طرف سے جنایت (جرم) کامل طور پر پائی جائے۔ اگر اس جنایت میں کوئی شبہ پیدا کرنے والی چیز پائی جائے تو اب کفارہ کا حکم نہیں ہوگا۔ اس وقت جنایت کامل نہیں بلکہ ناقص ہوگی۔

اب جنایت کامل ہے یا ناقص؟ یہ جاننے کے لیے نفس فعل کو دیکھا جائے گا جس کی بنیاد پر جنایت سرزد ہوئی ہے اگر نفس فعل ایسا ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو اب یہی سمجھیں گے کہ روزہ دار کی جنایت کامل ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز کو بنیاد بنا کر روزہ توڑا ہے جو بنیاد بن ہی نہیں سکتی، اس لیے اسے رعایت نہیں ملے گی اور کفارہ لازم ہوگا، اور اگر نفس فعل ایسا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اب یہی سمجھیں گے کہ روزہ دار کی جنایت ناقص ہے کیونکہ اس نے ایسی چیز کو بنیاد بنا کر روزہ توڑا ہے جو بنیاد بن سکتی ہے۔ اس لیے اسے رعایت ملے گی کہ کفارہ لازم نہ ہوگا۔

اس اصول کے پیش نظر دونوں مسئلوں میں فرق کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے مسئلے میں سرمہ یا تیل لگانا یہ جنایت (جرم) کی بنیاد ہیں۔ چونکہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس لیے جنایت کو

کامل سمجھا جائے گا اور کفارہ کا حکم لگایا جائے گا جبکہ دوسرے مسئلہ میں کھانا پینا ایسی بنیادی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے <sup>(1)</sup> اس لیے اس جنایت کو ناقص سمجھا جائے گا اور کفارہ کا حکم عائد نہ ہو گا۔

واللہ اعلم بالصواب

محمد ریاض رحمن

18- اپریل 2021ء

(1) رہا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہ ٹوٹتا تو وہ ایک حدیث کی بنا پر ہے کہ میری امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا گیا ہے، ورنہ کھانے پینے سے روزہ کا ٹوٹ جانا یقینی ہے۔ اس لئے علت میں نفس فعل کو بنیاد بنایا ہے (یعنی نفس اکل و شرب کو) نہ کہ صفت فعل کو (یعنی عمد آیا بھولنے کو بنیاد نہیں بنایا گیا)